

برامپٹن 1 تا 7 مئی ورچوئل طور پر نیشنل یوتھ ویک منا رہا ہے

برامپٹن، آن (27 اپریل 2021) – سٹی آف برامپٹن 1 تا 7 مئی ورچوئل تقریبات کے ساتھ نیشنل یوتھ ویک منائے گا۔ نیشنل یوتھ ویک کو نوجوانوں اور ہماری کمیونٹی میں ان کی فعال شرکت کا جشن منانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔

نوجوانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ پورے ہفتے کے دوران تقریباً 40 مفت ورچوئل تقریبات میں ہمارے اور ہمارے شراکت داروں کے ساتھ شامل ہوں، بشمول 1 مئی کو دن 1 تا شام 5 بجے تک آغاز کی تقریب۔ پرتربہ مقررین سے قیادت، ذہنی صحت، انٹرپرائیوٹرشپ، شہری تعامل اور مزید بہت کچھ کے بارے میں سنیں اور بات چیت کریں۔

ورچوئل نشستوں کے لیے رجسٹر ہوں، بشمول ورک آؤٹ کی کلاسیں، ذاتی نگہداشت کی ایک ورکشاپ اور ذہنی صحت اور نوجوانوں کے لیے وکالت کے حوالے سے گفتگو۔ شیرین کالج کی ایکسیسنگ پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کی تقریب میں شامل ہوں؛ پنجابی کمیونٹی ہیلتھ سروسز کے ہائرنگ ایونٹ میں شرکت کریں اور شیف رک ماتھرو، فوڈ نیٹ ورک کینیڈا کے ریسیپیٹو ٹو رچز کے گزشتہ فاتح، سے پکوڑا بنانا سیکھیں۔

خصوصی تقریبات میں 1 مئی کو آغاز کی تقریب، 3 مئی کو وی پی پلے ٹو - گرلز اینڈ ومن ان سپورٹس لیڈرشپ کانفرنس اور 7 مئی کو ایک ورچوئل ڈانس شامل ہیں۔ خصوصی تقریبات میں شرکت کرنے والے لوگوں کو مفت درمیانے سائز کے ایک ٹاپنگ والے ایک ڈامینوز پزا کا کوپن کوڈ اور زبردست انعامات، مثلاً EB گیمز گفٹ کارڈ، ایک نینٹیڈو سوش کنسول پرائز پیک اور ایک ڈامینوز پزا پرائز پیک، جیتنے کا موقع حاصل ہو گا۔ ڈامینوز کے انعامات کو صرف برامپٹن کے مقامات پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

بر تقریب کے لیے رجسٹریشن درکار ہے۔ [مکمل شیڈول اور ان مفت نشستوں کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے یہاں کلک کریں۔](#)

اس موقعے کو ضائع نہ کریں! ناچیں، جھومیں اور سپاٹیفائے پر ہماری نیشنل یوتھ ویک کی پلے لسٹ کے ساتھ جشن منائیں۔ [سننے کے لیے یہاں کلک کریں۔](#)

برامپٹن فائر کا ورچوئل فائر اسٹیشن ٹور

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک فائر اسٹیشن اندر سے کیسا ہوتا ہے؟ بروز جمعرات، 6 مئی 2021 کو شام 6:30 تا 7:15 تک برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ساتھ فائر اسٹیشن کا ایک ورچوئل ٹور لیں۔ برامپٹن کے فائر فائٹرز آپ کو پورا ٹور دیں گے، جس میں ان کے زیر استعمال آلات سے لے کر وہ سامان شامل ہے، جو ہنگامی حالات کا جواب دینے میں انہیں محفوظ رکھتا ہے! Q&A کے لیے اپنے سوالات لائیں۔ [یہاں رجسٹر کریں۔](#)

دی روز میں سینٹر اسٹیج کنزرویٹری

پورے نیشنل یوتھ ویک کے دوران، دی روز برامپٹن 2020-2021 سینٹر اسٹیج کنزرویٹری، جو برامپٹن کے نوجوان فنکاروں کے لیے تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی کا ایک پروگرام ہے، کے شرکاء کو سوشل میڈیا پر نمایاں کرے گا۔ شرکاء اس بہار میں اپنی حتمی پیشکش کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [یہاں کلک کریں۔](#)

نوجوانوں کے لیے انسٹاگرام لائیو چیٹ

نیشنل یوتھ ویک منانے کے لیے، 30 اپریل کو شام 6 بجے مینر پیٹرک براؤن، سٹی کونسلر شارمین ولیمز اور سٹی کونسلر ہرکرات سنگھ کے ساتھ شامل ہو کر آنے والی ورچوئل سرگرمیوں کے متعلق جانیں، کووڈ-19 کی حالیہ ترین پابندیوں کے بارے میں بات کریں اور مزید بہت کچھ اس گفتگو کی میزبانی مینر براؤن کے اکاؤنٹ [@patrickbrownont](#) پر کی جائے گی۔

کووڈ-19 یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس

سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی کونسلر چارمین ولیمز اور سٹی کونسلر ہرکرات سنگھ کی مشترکہ سربراہی میں کام کرتی ہے۔ یہ ٹاسک فورس کووڈ-19 کی وباء کے دوران برامپٹن کے 14 تا 29 سال عمر کے نوجوانوں کی معاونت کے لیے قائم کی گئی ہے، جو نوجوانوں کی خدمات کے لیے قائم کردہ 40 سے زیادہ تنظیموں کے ساتھ روابط استوار کرتے ہوئے انہیں وسائل اور معاونت تک رسائی فراہم کرتی ہے تاکہ نوجوانوں کو گھروں سے آن لائن طور پر مثبت سرگرمیوں سے وابستہ رکھا جائے۔ [مزید معلومات کے لیے یہاں کلک کریں۔](#)

نوجوان دوست کمیونٹی ڈیزگنیشن

2020 میں پلے ورکس، ایک پروگرام جس کو پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹیریو کی معاونت حاصل ہے، کی جانب سے سٹی آف برامپٹن کو

پلاٹینیم یوتھ فرینڈلی کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ جب اس شہر کو نوجوانوں کے لیے نشوونما اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے شاندار عزم رکھنے کے اعتراف کے لیے تسلیم کیا تھا اور یہ 2020 میں پلاٹینیم کی اس چوٹی کی حیثیت کو حاصل کرنے والی تین کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ مزید جاننے کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

اقتباسات

"ہم 1 تا 7 مئی تک نیشنل یوتھ ویک کے دوران برامپٹن کے نوجوانوں کا جشن منانے کے لیے پرجوش ہیں! برامپٹن کینیڈا کے کم عمر ترین شہروں میں سے ایک ہے اور 14 سے 29 سال کی عمر کے 130,000 سے زائد نوجوانوں کا گھر ہے۔ میں تمام نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہفتے کے دوران تقریبات کے لیے رجسٹر ہوں اور کونسلر ولیمز اور کونسلر سنگھ کے ساتھ 30 اپریل کو میری نوجوانوں کے لیے انسٹاگرام لائیو چیٹ میں شامل ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"نیشنل یوتھ ویک مبارک ہو! برامپٹن کے نوجوان لوگ ہمارے مستقبل کے رہنما ہیں اور ہم ایسی تقریبات اور مواقع پیدا کرنے کے لیے وقف ہیں، جو انہیں کامیاب ہونے میں مدد دیں۔ 1 سے 7 مئی تک سٹی اور اس کے کمیونٹی شراکت داروں کی جانب سے پیشکش کی جانے والی تقریباً 40 تقریبات میں سے ایک، دو، دس یا تمام میں شرکت کریں!"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور نوجوان لوگوں کے لیے سیکھنے اور بڑھنے کے لیے مواقع کا شہر ہے۔ ہمارے نوجوان ہماری کمیونٹی کا ایک اہم حصہ ہیں اور ہم انہیں شہری شہولیت کی ترغیب دینے، قائدانہ مواقع بڑھانے اور ان کی بہبود کو فروغ دینے کا مقصد رکھتے ہیں۔ پورے ہفتے کے دوران نیشنل یوتھ ویک کی مزید تقریبات کے لیے رجسٹر ہونا یقینی بنائیں۔"

- شامین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز؛ کولینڈ، یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ 1 سے 7 مئی تک نیشنل یوتھ ویک کے لیے رنگ برنگی ورچوئل تقریبات اور سرگرمیوں کے ساتھ برامپٹن کے نوجوانوں کا جشن منانے کے لیے پرجوش ہے۔ اگرشہ کہ ہم اس سال یہ جشن منانے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہماری ٹیم نے اس ہفتے کے لیے ایک پرجوش مجموعہ تیار کیا ہے۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ سانن اپ کریں اور لطف میں شامل ہو جائیں!"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca